

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
نئی دہلی
پریس ریلیز
10 اکتوبر 2020

جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سیشن 2020-21 کے لئے داخلہ امتحانات شروع

سیشن 2020-21 کے لئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 126 پوسٹ گریجویٹ ، انڈرگریجویٹ اور ڈپلومہ پروگراموں میں داخلے کے لئے امتحانات کا آج بحسن و خوبی آغاز ہوا۔

یونیورسٹی کیمپس کے مختلف امتحانی مراکز میں دو شفٹوں میں منعقدہ داخلہ ٹیسٹوں کے دوران کوویڈ 19 سے متعلق تمام رہنما خطوط اور پروٹوکول کی پیروی کی جارہی ہے۔ امتحانات سے ایک دن قبل امتحانی مراکز کی صفائی کی گئی تھی اور امیدواروں سے کہا گیا تھا کہ وہ خود پانی کی بوتل اور جیب سائز ہینڈ سینیٹائزر ساتھ لائیں۔

ماسک اور درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کے ساتھ ، سوشل ڈسٹنسنگ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے امیدواروں کو امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ 99.4 ڈگری فارن ہائیٹ درجہ حرارت رکھنے والے طالب علم کے لئے علیحدہ کمروں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ سوشل ڈسٹنسنگ کے اصولوں کے بعد امتحان ہالوں کے اندر بیٹھنے کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔

والدین / سرپرستوں کے لئے یونیورسٹی کیمپس کے مختلف ٹیسٹ سنٹرز میں انتظار گاہ بھی تیار کیا گیا ہے جس میں بیٹھنے کے لئے کرسیاں ، پیڈسٹل پنکھے وغیرہ شامل ہیں۔

پروگرام کے کوآرڈینیٹر مسٹر وی ایچ صدیقی اور این ایس ایس کے پروگرام آفیسر ڈاکٹر عابد حسین کی رہنمائی میں این ایس ایس ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے رضاکار رہنمائی کے لئے ان ہیلپ ڈیسک پر موجود تھے۔ رضاکار امیدواروں کو مختلف طریقوں سے مدد فراہم کر رہے ہیں جیسے انٹری ٹیسٹ مراکز کی رہنمائی ، ایڈمیٹ کارڈ پر تصویر چسپاں کرنا ، امیدوار اگر داخلہ کارڈ ، فوٹو پرنٹ آؤٹ ، ابتدائی طبی امداد ، جسمانی طور پر معذور ہے تو ان کے مسائل کے حل کا تدارک کر رہے ہیں۔

کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں طلبہ اور ان کے والدین / سرپرستوں کی مدد کے لئے ، سیکورٹی آفس کے کنٹرول روم میں داخلہ ٹیسٹ کے دوران ، ڈاکٹر ایم اے ، انصاری ہیلتھ سنٹر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ایمبولینس بھی دستیاب رکھی گئی ہے۔

والدین اور سرپرست ان انتظامات سے بہت خوش تھے اور وہ ان امدادی میزوں پر رکھے ہوئے رجسٹر میں اپنی رائے درج کروا رہے ہیں۔

درخواست دہندگان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نتائج کی اشاعت سمیت داخلہ ٹیسٹوں کے سلسلے میں تازہ ترین اعلانات یا تبدیلیوں (اگر کوئی ہو تو) کے لئے کنٹرولر امتحانات جامعہ ملیہ اسلامیہ کی آفشلی ویب سائٹ (www.jmicoe.in) کی ویب سائٹ باقاعدگی سے دیکھیں۔

كسى بهى پرلشانى كى صورت مىن؁ طلبا هفتة كة دن كام كة اوقات كة دوران هيلپ ڈيسك نمبر: 011-26987338؁ 9836219994؁ اور 9836289994 پر يا اى ميل كة ذرلعة admission@jmi.coe.in پر رابطه كر سكتة هيلن-

احمد عظم
پى ار او-مىڈيا كوآرڈينلٹر